



## سوال

بدعت کا معنی و مفہوم اور درجہ بندی

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بدعت کے متعلق ہمارے علماء کرام مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بعض بدعتیں اچھی ہوتی ہیں بعض بری۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بدعت عربی زبان میں نئی ایجاد ہونے والی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس جیسی چیز پہلے موجود نہ ہو۔ ان میں سے بعض کا تعلق باہمی معاملات اور دنیوی کاموں سے ہوتا ہے جیسے سفر کے وسائل مثلاً ہوائی جہاز ریل گاڑی اور کاریں بسیں وغیرہ بجلی سے کام کرنے والی بہت سی اشیاء کھانا پکانے کی چیزیں سردی گرمی کے حصول کے جدید ذرائع نئے آلات جنت مثلاً مہ آبدوز اور ٹینک وغیرہ۔ ایسی چیزیں جن کا تعلق بندے کی دنیوی ضروریات سے ہوتا ہے ان میں فی نفسہ کوئی حرج نہیں ہے نہ ان کی ایجاد گناہ ہے۔ اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے کہ ان اشیاء کی ایجاد کا مقصد کیا ہے اور یہ کس کام آتی ہیں؟ تو اگر ان کی ایجاد سے انسانوں کی بھلائی مقصود ہو اور انہیں نیکی کے کاموں میں استعمال کیا جائے تو یہ ایجادات بھی خیر اور اچھی چیزیں ہیں اور اگر ان کی ایجاد کا مقصد تخریب اور فساد ہونا یا وہ اس مقصد کے لئے استعمال کی جائیں تو یہ برائی اور مصیبت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھار نئی چیز کا تعلق دین سے ہوتا ہے یعنی عقیدہ یا قولی عبادت یا نفعی عبادت سے جیسے تقدیر کے انکار کی عبادت، قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنے اور گنبد بنانے کی بدعت، قبرستان میں مردوں کے لئے قرآن پڑھنے کی بدعت، اولیاء اور لیڈروں کی سالگرہ وغیر اللہ سے فریاد، مزاروں کا طواف کرنے کی بدعت تو ایسی بدعتیں گمراہی ہیں۔ کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا:

(بِأَكْرَمِ ذُنُوبِ النَّاسِ أَنْ يُؤْتَى فِيهَا مَالٌ بَدْعًا خَلِيلًا)

”نئے کاموں سے بچو، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔“

لیکن (یہ بدعتیں مختلف درجے کی ہیں) بعض بدعتیں تو شرک اکبر پر مشتمل ہوتی ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کرنے کا باعث ہے مثلاً غیر اللہ سے کسی ایسے کام میں مدد مانگنا جو عام اسباب سے ماوراء ہو غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا اور مدد مانگنا جو عام اسباب سے ماوراء ہو یعنی ایسے کام جو عبادت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہیں (جب وہ غیر اللہ کے لئے کئے جائیں گے تو شرک اکبر ہوں گے۔)

بعض بدعتیں شرک تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مثلاً نیک لوگوں کی جاہ (مقام و مرتبہ) کے وسیلہ سے دعا کرنا یا غیر اللہ کی قسم کھانا یا کسی کو کہنا: (جو اللہ چاہے اور تو چاہے) عبادت سے تعلق رکھنے والی بدعتوں کا احکام خمسہ (حرام، مکروہ، مباح، مستحب، واجب) کے لحاظ سے تقسیم نہیں کی جاسکتی جس طرح بعض حضرات کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ کیونکہ حدیث



کے الفاظ عام ہیں کہ

(کل بدعت ضلالت)

”ہر بدعت گمراہی ہے۔“  
حداماعندی والتدا علم بالصواب

فتاویٰ دارالسلام

ج 1

محدث فتویٰ